



میں ایک رات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (نماز پڑھنے کے لیے) کھڑا ہوا چنانچہ آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور سورہ البقرہ پڑھی آپ ﷺ جب کسی رحمت والی آیت سے گزرتے تو ٹھہر کر رحمت طلب کرتے اور جب کسی عذاب والی آیت سے گزرتے تو ٹھہر کر پناہ مانگتے

عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (نماز پڑھنے کے لیے) کھڑا ہوا چنانچہ آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور سورہ البقرہ پڑھی آپ ﷺ جب کسی رحمت والی آیت سے گزرتے تو ٹھہر کر رحمت طلب کرتے اور جب کسی عذاب والی آیت سے گزرتے تو ٹھہر کر پناہ مانگتے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پھر آپ ﷺ بقدر قیام رکوع کیا اور آپ ﷺ اپنے رکوع میں فرما رہے تھے: "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ" (پاک ﷻ و ذات جو بڑے قدر و غلبے، بڑی بادشاہت، نہایت بڑائی اور بے حد عظمت والی ﷻ) پھر قیام ہی کے بقدر آپ ﷺ نہ سجدے کیا اور اپنے سجدے میں بھی آپ ﷺ نہ دعا پڑھی پھر آپ ﷺ (دوسری رکعت کے لیے) کھڑے ہو گئے اور سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی پھر آپ ﷺ نہ (بقیہ رکعتوں میں) ایک ایک سورت پڑھی

[صحیح] [اسلم امام نسائی نے روایت کیا ﷻ - اسلم امام ابو داؤد نے روایت کیا ﷻ - اسلم امام احمد نے روایت کیا ﷻ]

عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک رات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز تہجد ادا کی آپ ﷺ نماز میں کھڑے ہوئے اور سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی آپ ﷺ جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں رحمت اور جنت کا ذکر ہوتا تو اللہ سے اس کی رحمت اور جنت کا سوال کرتے اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا تو اللہ سے عذاب سے اس کی پناہ طلب کرتے پھر آپ ﷺ نہ اپنے قیام ہی کے بقدر لمبا رکوع کیا اور اپنے رکوع میں آپ ﷺ یہ کہتے رہے تھے: "سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ" یعنی میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جو زبردست اور غالب ﷻ، جو ظالمی و باطنی بادشاہت کا مالک ﷻ اور بڑائی و عظمت والا ﷻ پھر آپ ﷺ نہ اپنے قیام ہی کے بقدر سجدے فرمایا اور اپنے سجدے میں دعا پڑھی جو آپ ﷺ نہ اپنے رکوع میں پڑھی تھی پھر آپ ﷺ نہ کھڑے ہو کر سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی اور پھر ایک ایک سورت کی تلاوت فرمائی

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/8281>

